



اوقاتِ سحر و افطار برائے بارسلونا و گرد و نواح

RAMADAN المبارک

رمضان 2010ء بمطابق 1431ھ



روزہ رکھنے کی نیت

وَيَصُومُ مَحَلُّ الْوَيْتِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ

نیت کرتا ہوں میں کس کے گھر رمضان کے روزے رکھوں گی۔

روزہ رکھنے کی دعا

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ لَكَ حَقِيْقَةٌ وَبِكَ اَمْنٌ وَ
عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ اَتَكَلَّفُ

اے میرے اللہ میں نے تجھ سے روزہ رکھا اور تجھ پر ایلا لیا اور تجھ پر
میں تجھ سے روزہ رکھنے کی دعا کرتی ہوں اور تجھ سے روزہ رکھنے کی دعا کرتی ہوں۔

آغوش



شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی زیر سرپرستی منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام
آغوش کے نام سے 500 یتیم اور لاوارث بچوں کی کفالت، تعلیم و تربیت اور پالنے
کے عظیم الشان منصوبے کی سنگ بنیاد رکھی جا چکی ہے۔ اس وقت اس میں 50 بچے ایک
اعلیٰ مل کا اس گھر لانے کے بچوں سمیت پہنچے ہیں۔ یہ سرفیو بچے ہیں۔ اس کی پالنے
پر ایکٹ کی تحمیل میں آپ بھی اپنا حصہ لیں، آغوش کی بلاک نمبر 34 پاس میں تقسیم کیا گیا
ہے، اور ہر بلاک میں 50 بچے ہیں۔ آغوش کی عمارت کی تعمیر کے لیے دنیا بھر سے
صاحبِ ثروت احباب تعاون جاری رکھے ہوئے ہیں، تاہم ادانہ مزید احباب سے
تعاون کے حصول کے لیے کوشاں ہے۔ آپ اس کا رفر کے تعاون کے معنی ہوں تو اس
عظیم الشان پراجیکٹ کے کسی ایک فون، بلاک، پوسٹ یا کرے کو اپنے دلدارین منشیان اور
بزرگوں کے ایصالِ ثواب اور اپنے خوش فخرت کے لیے پاس کر سکتے ہیں۔

رمضان المبارک کے اہم ایام

1	پیدائش شیخ عبداللہ بن عبدالمطلب	3	وصال حضرت فاطمہ الزہراءؑ
11	وصال حضرت عثمان غنیؓ	17	وصال حضرت عائشہؓ
21	شہادت حضرت ام المومنینؓ	27	ولادت حضرت محمدؐ

مستان المبارک	اکت/ ستمبر	ون	سری فجر	طلوع آفتاب	تہر	عمر	انکار مغرب	عشاء
AGG/ SEP	DIA	Sani/ Fajr	Shuq	Onhr	Asr	Magrib	Isha	
1	11	بدت	5:11	6:56	13:57	18:53	21:04	22:36
2	12	بھرت	5:12	6:57	13:57	18:52	21:02	22:34
3	13	بدت	5:14	6:58	13:57	18:51	21:01	22:32
4	14	بدت	5:15	6:59	13:56	18:50	20:59	22:31
5	15	اوار	5:17	7:00	13:56	18:49	20:58	22:29
6	16	سوار	5:18	7:01	13:56	18:48	20:55	22:27
7	17	مشل	5:20	7:02	13:56	18:47	20:54	22:25
8	18	بدت	5:21	7:03	13:56	18:46	20:53	22:23
9	19	بھرت	5:23	7:04	13:55	18:45	20:52	22:21
10	20	بدت	5:24	7:05	13:55	18:44	20:51	22:19
11	21	بدت	5:26	7:06	13:55	18:43	20:49	22:17
12	22	اوار	5:27	7:07	13:55	18:42	20:48	22:16
13	23	سوار	5:29	7:08	13:54	18:41	20:46	22:14
14	24	مشل	5:30	7:09	13:54	18:40	20:45	22:12
15	25	بدت	5:31	7:10	13:54	18:38	20:43	22:10
16	26	بھرت	5:33	7:11	13:54	18:37	20:41	22:08
17	27	بدت	5:34	7:12	13:53	18:36	20:40	22:06
18	28	بدت	5:36	7:13	13:53	18:35	20:38	22:04
19	29	اوار	5:37	7:14	13:53	18:34	20:37	22:02
20	30	سوار	5:38	7:15	13:52	18:33	20:35	22:00
21	31	مشل	5:40	7:16	13:52	18:31	20:33	21:58
22		یکم مستحب	5:41	7:17	13:52	18:30	20:32	21:56
23	2	بھرت	5:42	7:18	13:51	18:29	20:30	21:54
24	3	بدت	5:44	7:19	13:51	18:27	20:28	21:52
25	4	بدت	5:45	7:20	13:51	18:26	20:27	21:50
26	5	اوار	5:46	7:21	13:50	18:25	20:25	21:49
27	6	سوار	5:48	7:22	13:50	18:24	20:23	21:47
28	7	مشل	5:49	7:23	13:50	18:22	20:22	21:45
29	8	بدت	5:50	7:24	13:49	18:21	20:20	21:43
30	9	بھرت	5:52	7:25	13:49	18:20	20:18	21:41

نوٹ: تمام اوقات فقہ حنفی کے مطابق ہیں۔

بارسلونا سے دیگر شہروں کا فرق

GIRONA -3 ° LLEIDA +4 ° TORTOSA +9 ° VALENCIA +12 ° LOGROÑO +14 ° MADRID +27

پبلے اور آخری روزہ کی تحدید منہاج القرآن چین کی ویب سائٹ یا درج ذیل ٹیلیفون نمبر کے ذریعے کریں

بارسلونا میں رمضان المبارک کے دوران جمعہ کی نماز اسپورٹس ہال El Raval میں ادا کی جائے گی

بارسلونا میں عید الفطر کی نماز شاہ اللہ شوال کو Museu Maritim میں ادا کی جائے گی

فطرانہ فی کس 5 یورو ہے

منہاج القرآن انٹرنیشنل سپین Centro Islámico Camino de la Paz

BARCELONA: C / Erasme de Janer, 9-11

BADALONA: C / Santiago, 25-bajos

LOGROÑO: C / Manzanera, 14-bajos

TEL 93 443 32 95

minhajspain@gmail.com

http://www.Minhaj.es

